

4 فروری 2019

برامپٹن میں بلیک ہسٹری کا مہینہ منائیں

برامپٹن، آن - سٹی آف برامپٹن نے 1 جنوری کو سٹی ہال میں تقریروں، شاعری اور فروری کو بلیک ہسٹری مہینہ کے طور پر منانے کے لیے برامپٹن کے اعلان کو پڑھے جانے کے ساتھ بلیک ہسٹری مہینے کے آغاز کو منایا۔

سٹی فروری کے مہینہ میں برامپٹن کی سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹی کے لیے خوشی منانے کے لیے دو مزید تقریبات کا انعقاد کرے گا۔

بلیک ہسٹری مہینہ کے رنگ

جمعہ کے روز، 22 فروری کو دن 12 سے دن 2 بجے تک لنچ کے لیے برامپٹن سٹی ہال میں تشریف لائیں! مقامی ویڈیوز کنزرویٹری میں مزید اسٹیکس اور کھانے \$5 یا کم قیمت پر فروخت کر رہے ہوں گے۔

اختتامی تقریب

بروز جمعرات، 28 فروری کو بلیک ہسٹری مہینہ کے اختتام کو سٹی کی اختتامی تقریب میں اسٹائل کے ساتھ منائیں۔ شام 4:30 سے رات 8 بجے تک، برامپٹن سٹی ہال رقص، موسیقی، سپوکن ورڈ، بچوں کی سرگرمیوں، بشمول چہرے پر پینٹنگ اور ویڈیوز، کے ساتھ جگمگانے کا اسٹیج پر مظاہرے شام 6 بجے شروع ہو جائیں گے اور ہلکی ریفریشمنٹس دستیاب ہوں گی۔

میئر پیٹرک براؤن کا کہنا تھا کہ "مجھے فخر ہے کہ سٹی آف برامپٹن اپنا پہلے باضابطہ بلیک ہسٹری مہینہ کی تقریبات کی میزبانی کر رہا ہے۔ پوری کونسل کی جانب سے، ہم اپنے اپنی سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹی کی خوشی منانے کے اس موقعے اور مستقبل میں دیگر کئی ثقافتی جشنوں کے لیے پر امید ہیں۔"

بلیک ہسٹری مہینہ ایک قومی موقع ہے، جو اس اہم کردار کی پہچان کرتا ہے، جو سیاہ فام کینیڈینز نے کینیڈا کی ثقافت اور شناخت کے لیے ادا کیا ہے۔ برامپٹن کی تقریبات ہماری مقامی سیاہ فام کمیونٹی کے ماضی کے اور موجودہ کردار اور ہمارے شہر میں زندگی کے تمام پہلوؤں کی خوشیاں مناتی ہے۔

برامپٹن میں بلیک ہسٹری مہینہ کی تقریبات کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

--30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرہن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca